

036-18

20 اپریل 2018

اپریل سکھ برادری کے ورثہ کا مہینہ ہے برامپٹن اپنی سکھ کمیونٹی کے ساتھ خوشیاں منائے گا

برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن اپریل کے مہینے کو سکھ برادری کے ورثہ کے مہینہ کے طور پر مناتا ہے اور ہر کسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن کی سماجی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی زندگی میں کینیڈا کی سکھ برادری کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان کی خوشیوں میں شرکت کریں۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ ہم کینیڈا کی سکھ برادری کی جانب سے ہماری کمیونٹی اور پورے ملک کے لیے ادا کیے جانے والے ان کے مثبت کردار کے بارے میں مستقبل میں آنے والی اپنی نسلوں کو آگاہ کریں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔

اس ضمن میں بروز جمعرات، مورخہ 26 اپریل کو شام 6 تا رات 8 بجے تک سٹی ہال اٹریم اور کنزرویٹری میں سٹی انتظامیہ کی جانب سے نیٹ ورکنگ، پریزنٹیشنز اور براہ راست تفریح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔

یہ مہینہ سکھ کمیونٹی کے لیے اہم حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ماہ کے دوران خالصہ اور سکھ کلمات عقیدہ کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ کینیڈا کے کئی سکھ گھرانوں نے بروز ہفتہ مورخہ 14 اپریل 2018 کو بیساکھی، جسے خالصہ ڈے بھی کہا جاتا ہے، کا تہوار منایا ہے۔

سکھ ورثہ کے مہینے کی تقریب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے <http://www.brampton.ca> ملاحظہ کریں

اقتباسات:

"سٹی آف برامپٹن اپنی سکھ کمیونٹی کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپریل کو سکھ ورثہ کے مہینے کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سکھ برادری ہمارے ثقافتی منظر نامے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہاں برامپٹن میں ہماری کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کرنے پر ہم سکھ کمیونٹی کے انتہائی شکر گزار ہیں - آپ ہم سب کو ایسی رغبت دلانا جاری رکھیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

"مجھے سٹی آف برامپٹن کا رہائشی ہونے پر فخر ہے کیونکہ ہم نے اپریل کو سکھ وراثت کے مہینے کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ سکھ ورثے کا مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کینیڈا کی سکھ برادری کی خدمات کے بارے میں اپنی آنے والی نسلوں کو مطلع کریں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔"

سٹی کونسلر گرپریت ڈھلون، وارڈ 9 اور 10

- 30 -

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ یہاں مزید جانیں www.brampton.ca

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654